



**THE  
SENATE OF PAKISTAN  
DEBATES**

*OFFICIAL REPORT*

Wednesday, January 23, 2013  
(90<sup>th</sup> Session)  
Volume II, No.03  
(Nos.1- II)

**CONTENTS**

	Pages
1. Recitation from the Holy Quran.....	1
2. Questions and Answers.....	2
3. Leave of Absence.....	20
4. Presentation of Report .....	20
5. Legislative Business:	
• Introduction of the Investigation for Fair Trial Bill, 2012.....	21
6. Points of Order:	
i) All the Works of Development have been stopped without the Secretary Planning Commission.....	22
ii) Governor's Rule in Balochistan .....	23-28
iii) Target Killing in Karachi .....	29-36

*Printed and Published by the Senate Secretariat, Islamabad.*

## SENATE OF PAKISTAN

### SENATE DEBATES

Wednesday, January 23, 2013

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad, at twenty minutes past eleven in the morning with Mr. Chairman (Syed Nayyer Hussain Bokhari) in the Chair.

Recitation from the Holy Quran

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَ  
كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَ  
سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ  
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۚ تَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ  
وَاعْدَلْتُمْ أَجْرًا كَرِيمًا-

ترجمہ: محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں (سلسلہ نبوت ختم کرنے والے) ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اسے ایمان والو! تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جس دن وہ (مومن)

اس سے ملاقات کریں گے تو ان (کی ملاقات) کا تحفہ سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔

سورة الاحزاب (آیات 40 تا 44)

### Questions and Answers

Mr. Chairman: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ We now take up questions.

Mr. Nisar Muhammad is not present. Next question, Begum Najma Hameed is also not present. Next question, Begum Najma Hameed. Next question, Mrs. Nuzhat Sadiq.

73. \*Senator Nisar Muhammad: Will the Minister for Information Technology and Telecommunications be pleased to refer to the Senate starred question No. 39-A, replied on 5th September, 2012, and state the sources through which Universal Service Fund is generated?

Makhdoom Shahabuddin (Minister for Information Technology and Telecommunications): The source of USF are defined under section 33A, sub-section (4) of the Telecom Act (Annex-A), as follows:—

- a. Grants made by the Federal Government and the Provincial Governments.
- b. Prescribed contribution by licensees.
- c. Sale proceeds from the auction of the right to use radio spectrum.
- d. Loans obtained from the Federal Government; and
- e. Grants and endowments received from other agencies.

The prescribed contribution by the licensees as mentioned at (b) above is defined under rule-4(3) of the USF Rules (Annex-B). Currently, USF contribution by the eligible Telecom Operators is 1.5% of their Gross Revenues after adjustment of PTA License fee payments, FAB Spectrum Fee payments.

Annex-A

telecommunication service is provided [or any licensed service is being used against the interest of national security and public safety]<sup>53</sup> therefrom carry out search and inspection thereof and seize such telecommunication system, wireless telegraph apparatus or terminal equipment [or crypto apparatus]<sup>54</sup>

(2) Any telecommunication equipment, wireless telegraphy apparatus or terminal equipment seized under sub-section (1) having no ostensible owner shall vest to the Authority, or as the case may be, the Board.

33. Indemnity.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Authority or any member or employee of the Authority in respect of anything done or intended to be done by the Authority in good faith under this Act.

[CHAPTER IIIA  
SPECIAL FUNDS

33A. Establishment of USF.—(1) As soon as may be, after the commencement of this Pakistan Telecommunication (Amendment) Act, 2005, the Federal Government shall by notification in the Official Gazette, establish a Fund to be called the Universal Service Fund hereinafter referred to as USF.

(2) The USF shall be under the control of the Federal Government and therein shall be credited any sums of money mentioned under sub-section 4.

(3) The balance to the credit of the USF shall not laps at the end of the financial year.

(4) The USF shall consist of—

- (a) grants made by the Federal Government and the Provincial Governments;
- (b) prescribed contribution by licensees;

- (c) sale proceeds from the auction of the right to use radio spectrum;
- (d) loans obtained from the Federal Government; and
- (e) grants and endowments received from other agencies.

33B Administration and utilization of USF.-(1) The Federal Government shall have the power to administer the USF in such manner as may be prescribed.

(2) The USF shall be utilized exclusively for providing access to telecommunication services to people in the un-served, under-served, rural and remote areas and other expenditure to be made and incurred by the Federal Government in managing USF.

(3) The Federal Government shall be responsible for the coordination and ensuring timely utilization and release of sums in accordance with the criteria as may be prescribed.

33C Research and Development Fund.-(1) As soon as may be, after the commencement of this Pakistan Telecommunication (Re-organization)

Annex-B

3332 THE GAZETTE OF PAKISTAN, EXTRA., NOVEMBER 11, 2006 [PART II

(c) determine, make, monitor and liquidate investments and make reinvestments of surplus sums standing to the credit of the Fund account;

(d) make shall make quarterly releases to the USF company as per the approved budget of USF not later than fourteen days before the commencement of each quarter;

(e) nominate one or more signatories to the Fund Account;

(f) address all matters related to the audit of the Fund; and

(g) co-ordinate with relevant licensees and the Authority on matters related to contributions to the Fund.

4. The Fund.—(1) The Fund shall consist of the amounts, grants and contributions provided in sub-section (4) of section 33A of the Act and includes proceeds of the Funds.

(2) Every licensee having a license containing provision regarding USF contribution, issued, renewed or validated, shall contribute 1.5%, from date of grant of such license, of its annual gross revenues for the most recently completed financial year of the licensed services minus inter-operator and related Authority and Frequency Allocation Board mandated payments.

(3) The Federal Government may at any time reduce the percentage of the USF contribution but shall not increase it beyond 1.5% without consent of USF contributors.

(4) For the purpose of these rules the sale proceeds from the auction of the right to use radio spectrum as provided in sub-section (4) of section 33A of the Act shall include the remaining installments of such sale proceeds yet to be paid by licensees and the renewal fee to be paid by remaining mobile cellular licensees benchmarked on the basis of auction price of the two mobile cellular licensees in the year 2004 for renewal of their licenses after the said auction.

5. Collection of USF contribution.—(1) The Federal Government may require licensees directly to deposit USF contributions, within the period prescribed in their licences or may require them to deposit USF contribution on quarterly basis during the running financial year on estimated annual gross revenues subject to adjustments at the end of the financial year, and APC for USF in accordance with AP Rules or direct Authority to collect and remit USF contribution and APC for USF to the Fund's designated account without any deduction within one month of receipt.

77. \*Senator Begum Najma Hameed: Will the Minister for Information Technology and Telecommunications be pleased to state:

(a) the original estimated cost of Optical Fiber Based Transmission Link between Gawadar and Jewani Project; and

(b) whether it is a fact that the said cost has increased due to delay in completion of work, if so, its extent?

**Makhdoom Shahabuddin:** (a) The original estimated approved PC-1 cost of overall project of Optical Fiber Based Transmission Link between Keti Bandar/Port Qasim Khi to Jewani was Rs.627.137 (M). However, for Gwadar to Jiwani portion, its actual cost is Rs.26(M).

(b) No. the said cost has not been increased due to any delay in completion of work. The actual completion cost of the whole project is Rs.367.870 (M) with a saving of Rs.259.267 (M). As far as Gwadar to Jewani portion is concerned, its actual completion cost is Rs.26(M).

78. \*Senator Begum Najma Hameed: Will the Minister for Information Technology & Telecommunications be pleased to state:

(a) the date on which work on the project of Optical Fiber Based Transmission Link between Gawadar and Jewani was started;

(b) the original date of completion of the said project; and

(c) whether the date of completion of that project has been revised, if so, the time by which it will now be completed?

**Makhdoom Shahabuddin:** (a) The work on the project of Optical Fiber Based Transmission Link between Gwadar and Jewani was started on 23rd June, 2004.

(b) The original date of completion of the project was one year after start of project i.e.; 23rd June, 2005.

(c) Optical Fiber cable in this portion i.e., from Gwadar to Jiwani was laid well in time. However, the overall completion date of the project was revised upto 30th June, 2009 due to non-availability of. 02xdark fibers by DEFCOM (NLC). So, the extension was actually with reference to usability of the project in total. After that, it is handed-over to NTC maintenance wing. Overall project was completed in December, 2011 upon receiving 2 x dark fibers from DEFCOM (NLC).

79. \*Senator Begum Najma Hameed: Will the Minister for Information Technology and Telecommunications be pleased to state:

(a) the length of the project of Optical Fiber Based Transmission Link between Gawadar and Jewani;

(b) the date on which tender for the project was awarded and the name of the company/firm to which awarded; and

(c) the procedure adopted for awarding the contract?

Makhdoom Shahabuddin: (a) The length of the Optical Fiber cable between Gwadar and Jewani is 85 Km.

(b) The contract after tendering for the project was awarded on 23rd June, 2004. The work was awarded to a Joint Consortium of M/s Satcomm, M/s LTE and M/s Rahat Builders.

(c) Work for Coastal Fiber project was awarded through open competition. Tender for Coastal Fiber Project was floated/advertised in National newspapers by NTC HQs (S&P) wing on 13th February, 2004. The tender opening and evaluation of the bids was carried out by a committee comprising of technical and financial professionals and work was awarded after the approval of competent authority in line with the Government rules (GFR) as per NTC procurement procedure.



13. \*Senator Nuzhat Sadiq: Will the Minister for Law and Justice be pleased to state:

(a) whether it is fact that the government has established public defender and legal aid office to promote justice throughout Pakistan;

(b) the annual expenditure earmarked and spent for this purpose from the financial years 2008-09 to 2012-13;

(c) the procedure adopted by federal government to facilitate litigants;

(d) whether any foreign assistance / aid was also extended to the Pakistan during the said period for aforesaid assistance; if so, the detail thereof; and where such aid / assistance was utilized; and

(e) the steps taken to give awareness of such legal assistance, which is extended by the government?

Senator Farooq Hamid Naek (Minister for Law and Justice): No such office has been established so far at Federal level.

Mr. Chairman: Any Supplementary?

سینیٹر نذہت صادق: جناب چیئرمین! میں معزز وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا public defenders موجود ہیں جو litigants کو free legal aid دیتے ہوں، جن کے cases ہوں اور اگر ایسے public defenders ہیں، یہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اگر yes کہیں گے تو پھر بتائیے کہ ان کی awareness کے لیے تاکہ people get to know کہ ان کے لیے public defenders ہیں جو ان کے cases کو آگے fight کر سکتے ہیں۔ معزز وزیر صاحب یہ بتادیں۔ شکریہ۔

Mr. Chairman: Minister for Law and Justice.

Senator Farooq Hamid Naek: Thank you sir. Presently no office of Public Defenders has been established.

The Public Defenders and Legal Aid Bill was passed جناب! ہوا یہ تھا کہ by the National Assembly on 13<sup>th</sup> January 2010. It was transmitted to the Senate but unfortunately the Bill could not be passed here. وہ لاپس ہو گیا now it has to be considered in the Joint Sitting under Article 70 (iii) of the Constitution of Pakistan. اس کے علاوہ اٹھارھویں ترمیم کے بعد position یہ ہے کہ ہم only for the purpose of Islamabad legislate کر سکتے ہیں۔ پنجاب نے اپنا ایک Bill pass کیا ہے۔ ان کا ایک Defenders and Legal Aid Office ہے اور اگر ہم نے یہ کیا تو it would encroach on the powers of the provinces. وہ Bill اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ to be taken up in the Joint Sitting. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایسا کوئی office ہو then we will have to bring in a new Bill for the purpose of having office of this nature in Islamabad Capital Territory. Thank you.

جناب چیئرمین: سید مظفر حسین شاہ۔

Senator Syed Muzafar Hussain Shah: Sir, in the absence of any law, presently in relation to the question of the Government having established Public Defenders, what is the methodology and mechanism presently for providing legal assistance to poor litigants who are unable to engage legal Counsel? Specially, with this inflation and rates those consultants are charging now a days as fee. What is the methodology and mechanism of the Federal Government? What assistance are they rendering to the public in relation to cases where a poor man is unable to engage a counsel of a particular type who can defend him and assure that justice has been done?

Mr. Chairman: Minister for Law and Justice.

Senator Farooq Hamid Naek: Shah *shah* is a very senior counsel and remained the Speaker of the Sindh Provincial

Assembly also, he knows the facts and the circumstances in the laws very well and he knows very well right now. Presently the federation cannot encroach upon the powers of the provinces, it comes within the domain of free legal aid کسی کو دینی ہے تو province میں کسی کو free legal aid دینی ہے تو the respective provinces. As far as the federation is concerned, we Bill اور یہ جو are only concerned with Islamabad Capital Territory میں 2010 pass ہوا تھا تو 2008 میں, I was Minister for Law and Justice, alongwith the initiate کیا تھا تاکہ چاروں صوبوں میں جو federation ہے legal aid ایسی assistance and cooperation of the provinces, کیونکہ legal aid ایسی assistance and cooperation of the provinces, کیونکہ prosecution branch ہے مگر unfortunately ہمارے ملک میں کوئی ایسا آفس نہیں ہے اور جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ free legal aid دی جائے جو poor litigant ہے۔ اگر جیل میں ایک آدمی قید ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ وکیل کر سکے۔ جب میں نے یہ Bill as a Law Minister in 2008 draft کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کا آفس ہو گا، اس کا ایک head retired judge of Supreme Court رکھیں گے، provinces میں جو head retired judge of High Court ہو گا، مگر offices ہوں گے اس کا head retired judge of High Court ہو گا، مگر unfortunately یہ Bill pass نہ ہو سکا۔ اب اٹھارھویں ترمیم کے بعد جو federation کی powers میں اسے ہم Article 142 Clause (d) میں for the purpose of Islamabad Capital Territory exercise کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ حالات ہیں۔ میری تمام provincial law Ministers سے التجا ہو گی کہ وہ ایسا bill لے کر آئیں، اسے pass کریں کہ جو جیل میں غریب litigants ہیں، عورتیں ہیں، جن کے family disputes ہوتے ہیں، ان کو وکیل مہیا کیا جاسکے، it would be a big step towards solving the problems of the poor litigants. Thank you.

جناب چیئرمین: جی نسیرین جلیل صاحبہ۔

سینیٹر نسیرین جلیل: جناب چیئرمین! 1997 میں Women in Distress Bill

which had an endowment fund پاس ہوا تھا۔

Mr. Chairman: This is your supplementary relating to the earlier question?

سینیٹر جلیل نسرین: جی supplementary ہے۔ یہ Bill pass ہوا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر endowment fund ان خواتین کے لیے تھا جو litigants تھیں، جنہیں مدد درکار تھی، اگر اس کا کوئی آفس نہیں ہے تو یہ endowment fund کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے؟

Mr. Chairman: You need a fresh notice for it?

سینیٹر فاروق حامد نائیک: آپ fresh question دیجیئے، میں آپ کو ضرور جواب دوں

گا۔

جناب چیئرمین: حمزہ صاحب! تشریف رکھیں، تین supplementary ہو چکے ہیں۔ ظفر علی شاہ صاحب! جیسے نائیک صاحب نے کہا کہ، it relates to the ICT، تو یہ اسی سے related ہے؟

سینیٹر سید ظفر علی شاہ: جناب چیئرمین! یہاں free legal aid کی بات کی گئی۔ ہمارا جو Legal Practitioner Act ہے اس میں Provincial Bar Councils اور پاکستان Bar Councils ہیں اور انہیں ویسے بھی Federal Government feed کرتی ہے۔ Already ہر بار کونسل نے free legal aid کے offices بنائے ہوئے ہیں، صرف یہ ہے کہ اگر اس میں amendment کر کے سالانہ بجٹ میں رقم رکھ دی جائے تو بار کونسلیں جو کہ ویسے ہی متعلقہ ہیں، ان کے ذمہ یہ لگا دیا جائے، وہ ویسے بھی already free کام کر رہی ہیں۔ میں جب خود پاکستان بار کونسل کا ممبر تھا تو اس وقت یہ اسکیم رکھی گئی تھی جو کہ ابھی تک ہے، یہ کتنی effective ہے یا نہیں ہے، یہ ایک separate subject ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں amendment کرنا ضروری ہے کیونکہ ICT ایک الگ constitutional unit ہے، اس کی اپنی بانی کورٹ ہے، اپنی territory ہے اور یہ جو متعلقہ سوال ہے اس کے مطابق غریب litigants کے لیے بھی اس میں رکھا جائے۔

Mr. Chairman: Good suggestion. Minister for Law and Justice.

سینیٹر فاروق حامد نائیک: میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے جو تجویز دی ہے وہ بڑی اچھی ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ وقت تو کم ہے مگر اس کم وقت میں اگر کوئی drafting ہو سکی تو میں انشاء اللہ ضرور کروں گا۔ میں شاہ صاحب کو بھی بلا لوں گا، ان کی advice and experience کو مد نظر رکھا جائے گا بلکہ چاروں Provincial Bar Councils کے Vice Chairmen اور پاکستان بار کونسل کے Vice Chairman بھی آجائیں تاکہ کوئی اچھی scheme بن سکے، جس سے کہ غریب litigants کا فائدہ ہو۔ اگر ہم اس طرف چلیں تو یہ ایک اچھا قدم ہو گا۔ میں next month meeting تو ضرور کروں گا، پانچوں Vice Chairmen، شاہ صاحب اور مظفر حسین شاہ صاحب کو بلا کر ایک joint meeting کر کے ایک اچھا bill لے کر آئیں گے، this is a beneficial legislation، اس کے حق میں ہوں۔ شکریہ۔

جناب چیئر مین: جی طلحہ محمود صاحب۔

سینیٹر محمد طلحہ محمود: جناب چیئر مین! میں منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو جیلوں میں قیدی ہوتے ہیں اور جن کے پاس یہ facility نہیں ہوتی اور وہ afford نہیں کر سکتے تو پھر یہ ان کو کسی طرح handle کرتے ہیں یا ان کے لیے کیا criteria ہے؟ کیا وہ جیلوں میں ہی سرٹے رہتے ہیں اور اس طرح کے قیدیوں کے حوالے سے کوئی تعداد آپ کے پاس ہے؟

جناب چیئر مین: جی منسٹر صاحب۔

سینیٹر فاروق حامد نائیک: یہ بھی ایک fresh question ہے کہ how many people are in prison right now. یہ honourable member کا سوال ہے کہ یہ جو جیل میں لوگ ہیں ان کی کیا امداد کی جا رہی ہے۔ اس bill کو لانے کا مقصد ہی یہی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت provinces پر بہت زیادہ بوجھ ہے کہ وہ اس طرح کا Bill pass کریں، یہ ایک صوبے نے تو pass کیا ہوا ہے، اسے اچھی طرح implement کریں اور باقی تین صوبوں میں ایسا law نہیں ہے تو اس law کو pass کریں تاکہ جو لوگ جیلوں میں ہیں انہیں فائدہ ہو، انہیں ایک وکیل مل سکے۔ اس سے ایک وکیل کو client ملے گا۔ اس میں دو مقصد حل ہوں گے۔ ایسے قوانین بنانے چاہئیں کہ جس سے وکیل کو client ملے گا، اسے فیس ملے گی، چاہے کم ملے اور جو defendant ہے، مدعا یا مدعا علیہ ہے، اسے ایک وکیل مل جائے گا۔ یہ ضرور ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر fast track

کام ہونا چاہیے۔ میں نے 2008 میں بہت کوشش کی تھی، اسی لیے اس bill کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ اب اس پر اور کام ہونا چاہیے۔ میں ان سب کی تجاویز لینے کو تیار ہوں، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہو گا۔ شکریہ۔

Mr. Chairman: Thank you. Question No. 15. Begum Najma Hameed. She is not present. Next Question No. 17. Mrs. Nuzhat Sadiq.

15. \*Senator Begum Najma Hameed: Will the Minister for Law and Justice be pleased to state the amount allocated for the coming general elections in the country with head-wise break-up?

Senator Farooq Hamid Naek: The Election Commission has sent the Finance Division an estimated amount of Rs. 5,099,962,000/- in shape of supplementary grant for the forthcoming General Elections, the head-wise break-up of that amount is as under:—

Sl.	Heads of Allocation	Estimates for G.E. 2012-13
1.	Election Allowance/Diet Charges	1,259,986,000
2.	Casual Telephones for DROs/ROs	21,000,000
3.	Improvisation of Polling Stations	87,500,000
4.	Transportation of Election Material	480,000,000
5.	Allocation to DROs/ROs Office Stationery	16,596,000
6.	Publicity Charges	450,000,000
7.	Honoraria to the Employees of ECP	90,000,000
8.	Procurement of Election Material	148,000,000
9.	PCSIR-Indelible Ink	76,880,000
10.	Procurement & Transportation of Ballot Boxes & Voting Screen	215,000,000
11.	Printing of Ballot Papers, Forms, Envelops, Poster and Placard etc.	1,000,000,000
12.	Allocation to Army	500,000,000

13. Allocation to ECP and PECs  
(Misc. Expenditure) 750,000,000

14. Training for DROs/Returning Officers. 5,000,000

Total: 5,099,962,000

17. \*Senator Nuzhat Sadiq: Will the Minister for Information Technology and Telecommunications be pleased to state:

(a) names of consultants alongwith their qualification, appointed in the Ministry since March, 2008 with perks and privileges extended to each; and

(b) the justification of appointment of each consultant?

Makhdoom Shahabuddin: (a) Mr. Zain Iftikhar Sukkera, a Law Graduate was appointed as Consultant in the Ministry on 31-12-2009 in MP-II Scale. Perks and privileges extended to him were:

Salary: (MP-II Scale) Rs. 81,500-12 225-130,400

HRA: Rs.48,900

Utilities: Rs. 4,075

Total: Rs.134,475/-

Petrol: 270 Ltr

(b) To assist the Ministry of Information Technology in the field of IT and Telecom.

Mr. Chairman: Any supplementary?

سینیٹر نذہت صادق: میں محترم وزیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی I am looking at the answer اور زین سکھیرا صاحب کا نام یہاں آیا ہے اور انہیں Law graduate لکھا ہے۔ جواب میں perks and privileges بتائی گئی ہیں۔ جناب! ان کا کیس تو سپریم کورٹ میں بھی ہے if I am not wrong then ان کی بی اے کی ڈگری بہاولدین ذکر کیا یونیورسٹی سے





سینیٹر حاجی محمد عدیل: میں نے جس وقت یہ بٹن دبایا تھا اس وقت فاروق نائیک صاحب کچھ فرما رہے تھے اور میں اس ضمن میں پوچھ رہا تھا لیکن پتا نہیں آپ کے کمپیوٹر میں کچھ خرابی ہے کہ اس وقت مجھے نہیں اجازت دی گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات پتا کرنی ہے۔ اس سوال سے تعلق نہیں ہے مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں جیل نہیں ہے۔ آپ یہ بتادیں کہ یہ جیل کیوں نہیں ہے؟ یہاں کے قیدیوں کو پنجاب کی جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔

جناب چیئرمین: حاجی صاحب! یہ سوال Interior Ministry سے relate کرتا ہے۔ Law Ministry سے relate نہیں کرتا۔ جب وہ آئیں تو پھر آپ پوچھ لیں۔

سینیٹر حاجی محمد عدیل: ان بے چاروں پر بڑا بوجھ ہے۔

جناب چیئرمین: بہر حال آپ کے سوال کا بوجھ بھی وہ اٹھالیں گے۔ جی طلحہ محمود

صاحب۔

سینیٹر محمد طلحہ محمود: میں وزیر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ زمین افتخار سکھیرا صاحب جو کہ Law graduate ہیں ان سے آپ 2009-12-31 سے کس قسم کی consultancy in IT لے رہے ہیں۔ کیونکہ اس وقت تین سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رقم انہوں نے لکھی ہے یہ بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک طرف بتا رہے ہیں کہ 1,30,400/- اور 48,900/- کیا اس میں include ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ جو calculation کر رہے ہیں اس میں جو کل کی رقم لکھی ہے وہ کسی حوالے سے بھی match نہیں کر رہی۔ اگر ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا plus میں فرق ہے، یہ فرق کیوں ہے۔

Mr. Chairman: Minister for Information and Technology.

مخدوم شہاب الدین: جناب والا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 81,500 تو ان کی salary تھی جو House Rent ہے وہ 48,900 ہے اور utilities کے ہیں 4,075 ان سب کو ملائیں تو ان کا جو ٹوٹل بنتا ہے وہ 134,475/- بنتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ

all this money has been recovered by the government also. This has been recovered by the government.

جناب چیئرمین: جی سید مظفر حسین شاہ صاحب۔

Senator Syed Muzafar Hussain Shah: Sir, per se it looks as if there is no justification for the appointment of a raw law graduate to a post which is drawing 81,500 while so many qualified IT Consultants are available in the market. Will the Minister concerned be pleased to state as to what is the nexus or relevance of the job especially in the field of IT and Telecommunication and the appointment of a raw law graduate? So, what will be the nexus and relevance on the basis on which he was appointed?

Mr. Chairman: Minister for Information and Technology.

Makhdoom Shahabuddin: Sir, I really don't know the details about Mr. Zain Sukkera. I suppose sir, this was perhaps done or he was too smart to present himself as a very competent and a fully accomplished lawyer. I am sure he must have presented himself as a fully accomplished lawyer. Sir, I do understand the concern being shown by the honourable members but you know all this money paid to him was recovered.

Mr. Chairman: You mean, the wrong has been rectified.

Makhdoom Shahabuddin: Has been rectified, yes.

جناب چیئرمین: جی اسحاق ڈار صاحب۔

سینیٹر محمد اسحاق ڈار (قائد حزب اختلاف): جناب چیئرمین! لگتا ہے this morning "I don't know" is کیا وزیر صاحب اس mood میں ہیں۔ جو کچھ ان کو پتا ہے وہی آج بتادیں۔ میرے خیال میں یہ آج mood میں نہیں ہیں نہ انہوں نے brief پڑھا ہے اور نہ یہ تیاری کر کے آئے ہیں میرا خیال ہے سیدھے ادھر ہی آگئے ہیں۔ محترم وزیر صاحب ہر چیز پر فرما رہے ہیں "I don't know" تو میرا خیال ہے کہ ایوان بھی اس mood میں ہے کہ چلیں جاتے جاتے ان سے کوئی لطیفہ ہی سن لیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو یہ بتادیں جو ان کو پتا ہے وہی بتادیں۔

Makhdoom Shahabuddin: Certainly, I sat down and went through the brief and have done my home work.

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: یہ مان گئے ہیں کہ in the House میں نے brief پڑھا ہے تو اس لیے سوالوں کے جواب کیسے آئیں گے رات کو پورا پڑھنا تھا۔  
جناب چیئرمین: محسن لغاری صاحب۔

Senator Mohammad Mohsin Khan Leghari: I will like to ask the Minister in charge whether this is the only appointment that has been done in the Ministry since 2008. In the last five years, is this the only one appointment that has been made in the Ministry?

جناب چیئرمین: To collect the details fresh notice: نہیں چاہیے ہو گا؟  
سینیٹر محمد محسن خان لغاری: نہیں جی۔ اس میں جو سوال ہے اس میں names of consultants, consultants of میں تو جتنے بھی ہوں گے وہ آجاتے ہیں plural names ہے، names of consultants مانگے گئے ہیں۔

Mr. Chairman: Minister for Information and Technology.

Makhdoom Shahabuddin: Sir, actually this gentleman is not the sole appointee, can't be that sir, but obviously, I can't answer it off the cuff. So, I need a fresh question.

جناب چیئرمین: جی جعفر اقبال صاحب۔ ویسے منسٹر صاحب، یہ دیکھ لیں۔  
سینیٹر محمد محسن خان لغاری: آپ اس کا part-a پڑھیں names of consultants along with their qualification, 'name and 'his' 'their ہے names' it is a plural, how many have been appointed that would 'names' have been asked.

Mr. Chairman: Should we defer this question?

Makhdoom Shahabuddin: Sir, it has been answered.

Mr. Chairman: The point is this that this question is not confined to one person. It relates to many other persons who have

been appointed. The question was what are the names of the consultants? Not a consultant. That has to be seen.

Makhdoom Shahabuddin: Sir, I personally feel that *prima facie* this has been very inadequately answered, so this needs to be deferred.

Mr. Chairman: Leghari *sahib*, you can give a fresh notice for it. Yes, Jaffar Iqbal *sahib*.

سینیٹر چوہدری محمد جعفر اقبال: شکریہ۔ جناب چیئرمین! یہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو defer کیا کیونکہ وہ پوری تیاری میں نہیں تھے۔

Mr. Chairman: I have not deferred it.

سینیٹر چوہدری محمد جعفر اقبال: اچھا ابھی نہیں کیا، sorry sir، بات یہ ہے کہ اس پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ جیسے یہ law graduate ہے اور اس کو انہوں نے consultant کی appointment دی۔ ہمارے honourable Minister بھی Law میں Master ہیں اور یہ بھی IT کے متعلق کچھ نہیں جانتے اور اسی لیے ان کو کچھ پتا نہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔

Mr. Chairman: Jaffar Iqbal *sahib*, please no personal comments, come to the question.

سینیٹر چوہدری محمد جعفر اقبال: میرا ضمنی سوال ابھی continue کر رہا ہے یا نہیں؟ جناب چیئرمین: وہ جواب آچکا ہے کہ ان سے recovery ہو چکی ہے۔  
سینیٹر چوہدری محمد جعفر اقبال: میرا اگلا ضمنی سوال یہ ہوگا کہ کیا ان کی appointment former Prime Minister نے کی تھی یہ بتادیں۔

Mr. Chairman: Minister for Information and Technology.

Makhdoom Shahabuddin: Sir, the Prime Minister does not do this. Well, like my friend says that I should again say, I really don't know about it. I really need a fresh question.

Mr. Chairman: The question hour is over.

## Leave of Absence

Mr. Chairman: Now we move on to leave applications.

جناب محمد کاظم خان صاحب ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 21 اور 22 جنوری کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئر مین: جناب عبدالنسی بنگش صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 21 تا 24 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے؟

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئر مین: جناب بابر خان غوری صاحب نے اطلاع دی ہے کہ وہ ملک سے باہر ہونے کی بنا پر مورخہ 24 جنوری تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔

## Presentation of Report

Mr. Chairman: We move on to item No.3. Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi may move item No.3.

Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:

Thank you Mr. Chairman. I, the Chairman, Committee on Rules of Procedure and Privileges, move that under sub-rule (1) of rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, the delay in presentation of report of the Committee on the Privilege Motion moved by Senator Haji Ghulam Ali regarding irresponsible attitude of Deputy Chief of Protocol, Ministry of Foreign Affairs, be condoned till today.

Mr. Chairman: I put this motion before the House.

(The motion was carried)

Mr. Chairman: Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi may move item No.4.

Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: I, the Chairman, Committee on Rules of Procedure and Privileges, present report of the Committee on the Privilege Motion moved by Senator Haji Ghulam Ali regarding irresponsible attitude of Deputy Chief of Protocol, Ministry of Foreign Affairs.

Mr. Chairman: The report stands presented. We move on to item No.5. Mr. Farooq Hamid Naek, Minister for Law and Justice, may move the item.

### Legislative Business

#### Introduction of the Investigation for Fair Trial Bill, 2012

Senator Farooq Hamid Naek: Thank you sir. I wish to move that the Bill to provide for investigation for collection of evidence by means of modern techniques and devices to prevent and effectively deal with scheduled offences and to regulate the powers of the law enforcement and intelligence agencies and for matters connected therewith or ancillary thereto [The Investigation for Fair Trial Bill, 2012], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.

Mr. Chairman: Leader of the Opposition.

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ میں نے کل اسی چیز کو pre-emptive clarification عرض کی تھی کہ قومی اسمبلی سے pass ہونے کا قطعاً یہ standard Sir, it is a very important bill. It arrangement نہیں کہ یہ Bill یہاں pass ہوگا۔ has serious implications with regard to the personal lives of whosoever would be hit by this law. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہماری پارٹی کی input نہیں ہے۔ بلاشبہ اس میں lower House سے تعلق رکھنے والی ہماری پارٹی کی بھی input ہے۔ انہوں نے وہاں ہماری تقریباً 33 تراسیم accept کی ہیں۔ I think to be fair to this House because there is not a total wisdom in my colleagues

over there ہو سکتا ہے ایک آدھ اور اچھی چیز آ جائے یا نہ بھی آئے لیکن آپ اس کو مہربانی فرما کر Give them a timeline. Since we are in Law Committee کو refer کر دیں۔ Monday کا session till next Friday, hopefully and tentatively timeline دے دیں چونکہ Monday کو Private Members Day ہوتا ہے تو Tuesday کو آپ اسے list کر لیں اور پھر House میں اس کا فیصلہ کر لیں۔

Mr. Chairman: Minister for Law and Justice.

Senator Farooq Hamid Naek: I have no objection sir. Let it be referred to the Standing Committee under rule 98 of the Rules of Procedure and Conduct of Business and the report to be come by Monday or Tuesday. I have got no objection.

Mr. Chairman: The matter is being referred to the concerned Standing Committee and the report should come before Tuesday. Zahid Khan *sahib* on point of order.

#### Points of Order

All the Works of Development have been stopped without the Secretary Planning Commission.

سینیٹر محمد زاہد خان: چیئرمین صاحب! شکریہ۔ میرا Planning point of order Commission سے متعلق ہے۔ اس وقت Planning Commission کا کوئی Secretary نہیں ہے۔ 4 تاریخ کو Secretary retire ہوا، اس کی جگہ ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا۔ Planning and development کے سارے کام رکے ہوئے ہیں اور ترقیاتی فنڈز کسی department کو release نہیں ہو رہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی Senator, MNA کے funds کی بات کر رہا ہوں، میں تو development کی بات کر رہا ہوں۔ اس ملک میں جتنے بھی projects چل رہے ہیں، ان پر کام اس وقت بالکل بند ہے اور نہیں چل رہا۔ بد قسمتی ہے کہ جب بھی ہم کسی محکمے کے بارے میں پوچھتے ہیں مثلاً اگر SNGPL کا پوچھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ Prime Minister Secretariat میں Prime Minister کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے۔ خدارا! وہ گوجر خان کے نہیں بلکہ Prime Minister of Pakistan ہیں۔ ان سے پہلے

سابقہ Prime Minister نے بھی یہی کام کیا تھا کہ Communications کے تمام funds یعنی PSDP کے funds اپنے علاقے میں لے گئے۔ میں صوابدیدی فنڈز کی بات نہیں کر رہا، PSDP کے فنڈز rules کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، ملتان لے گئے۔ اسی طرح اب بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ خدارا! یہ کام چھوڑ دیں کیونکہ وہ Prime Minister of Pakistan ہیں۔ اگر یہی صورت حال رہی کہ آپ کے departments بند رہے اور کام نہ کر سکے تو کل کو آپ نے آخر کار عوام کے پاس تو جانا ہے۔ مہینہ یا دو مہینے رہیں گے، اس سے زیادہ عرصہ تو آپ نہیں رہ سکتے۔ اس وقت کوئی system نہیں چل رہا، سب کچھ jam ہے۔ ان معاملات کو کون دیکھے گا اور کون ٹھیک کرے گا؟ کیا Prime Minister کا کام یہ نہیں ہے؟ کیا establishment کا یہ کام نہیں ہے؟ Establishment کا ذمہ دار بھی وہی Prime Minister ہے۔ یہ صورت حال ہے۔ میں اس ایوان کے ذریعے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ Prime Minister of Pakistan بنیں، صرف گوجر خان کے نہ بنیں۔ یہ سارا ملک آپ کا ہے، ساری constituencies آپ کی ہیں کیونکہ آپ پورے ملک کے Prime Minister ہیں۔

شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔

جناب چیئرمین: میمن داس صاحب۔

### Governor's Rule in Balochistan

سینیٹر، میمن داس: شکریہ جناب چیئرمین۔ میں point of order کے ذریعے بلوچستان کے مسئلے پر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ گزشتہ دو روز سے ہمارے قائدین نے بھی اس معاملے پر detail سے بات کی ہے۔ حال ہی میں بلوچستان میں جو گورنر راج نافذ کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہور اور جمہوریت پسندی کی دعویٰ دار ہے اور اس نے عملی طور پر بھی کچھ کیا ہے۔ جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور ہم اس کو نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ پاکستان کا نقصان تصور کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس جمہوریت کے لیے قربانی دی باوجود اس کے ایک جمہوری حکومت اور جمہوری پارٹی نے ایک غیر جمہوری عمل بلوچستان میں دہرایا ہے۔ اس طرح کا غیر جمہوری عمل پہلی مرتبہ نہیں کیا گیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کون سی ایسی غیر جمہوری قوت ہے جو ایک جمہوری حکومت سے غیر جمہوری عمل کرواتی رہتی ہے اور اس پر داغ لگواتی رہتی ہے۔ 1973, 1990 یا آج 2013 کو دیکھیں، غیر جمہوری طریقے سے ایک جمہوری حکومت کو ختم کر کے گورنر راج نافذ کیا گیا۔ میں حکومت سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس



گورنر راج سے بلوچستان میں کیا تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں؟ کیا نگران حکومت کے setup کے حوالے سے جو معاملات آ رہے ہیں، ان کو روکنا چاہ رہے ہیں یا پھر اس چیز کو جواز بنا کر کچھ اور ارادے ہیں؟

گزشتہ چار سالوں سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، بلاشبہ بلوچستان میں بد امنی رہی ہے۔ وہاں اغوا برائے ناوان بھی تھا۔ اس حوالے سے ہم مختلف لوگ یہاں کھڑے ہو کر بولتے بھی رہے لیکن بات یہ ہے کہ ان معاملات کا background دیکھنا چاہیے کہ ان کا ذمہ دار کون ہے۔ چند ماہ سے پولیس کے اختیارات FC کو دے دیے گئے تھے۔ یہی چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے، یہی پولیس تھی، سب یہی تھے۔ اب ایسی کیا تبدیلی لانی گئی ہے جس سے یہ امید رکھی جائے کہ بلوچستان میں حالات بہتر ہوں گے۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پورے ملک میں حالات بہتر ہوں۔ ہم ایک مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ ایک جمہوری سوچ رکھنے والی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی صوبے میں گورنر راج نافذ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت چلتی رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت اور جمہوری عمل تسلسل کے ساتھ چلتا رہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان سے زیادہ دوسرے صوبوں کے حالات خراب ہیں۔ میرا کہنے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی گورنر راج نافذ کیا جائے۔ جس طرح دوسرے صوبوں میں جمہوری عمل کے تحت کارروائیاں کی جاتی ہیں، اسی طرح بلوچستان کا بھی یہ حق بنتا ہے۔ آپ بلوچستان میں رہنے والوں کو یہ message کیوں دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا صوبہ دوسرے صوبوں کے برابر نہیں ہے بلکہ ان سے کم تر ہے۔ بلوچستان میں بسنے والے عوام آج یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ خاص کر جب وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے۔

جناب چیئر مین! میں اس حوالے سے ایوان میں موجود تمام جمہوریت پسند جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سب ہماری مدد کریں۔ میں اس ایوان کے توسط سے جناب آصف علی زرداری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ گورنر راج کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ وہاں کی صوبائی اسمبلی کو اس کا جمہوری اور آئینی حق دیا جائے کہ وہ in House تبدیلی لائے۔ گورنر راج کو ختم کر کے بلوچستان کے عوام کو ان کا جمہوری حق دیا جائے۔ میں اس غیر جمہوری عمل پر جمعیت علمائے اسلام، BNP(Awami) اور ایوان میں موجود تمام جمہوریت پسند ارکان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پر ہمارا ساتھ دیں۔ جس طرح ایک غیر ملکی کے غیر جمہوری لانگ مارچ کو روکا گیا، اسی طرح اس چیز کو

بھی ناکام بنائیں، ہمارا ساتھ دیں اور ایوان سے واک آؤٹ کریں۔ میں اس کے ساتھ ہی ایوان سے واک آؤٹ کرتا ہوں۔

سینیٹر محمد صالح شاہ: جناب چیئرمین! فاٹا کے ممبران بھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے واقعات پر ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں۔  
(اس موقع پر، JUI (F) جی این بی این بی (عوامی) اور فاٹا کے اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے)  
جناب چیئرمین: سینیٹر رضاربانی صاحب۔

سینیٹر میاں رضاربانی: جناب چیئرمین! میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کل آپ نے میرے point of order پر direction دی تھی کہ آج Minister for Inter Provincial Coordination ایوان میں آئیں اور، devolution خاص طور پر صوبائی خود مختاری کے سلسلے میں CCI کا ایک decision جو 08<sup>th</sup> August, 2012 سے لے کر آج تک pending ہے، اس پر ایوان کو مطلع کریں کہ وہ decision اب تک implement کیوں نہیں ہوا؟ مجھے ایوان میں وزیر موصوف نظر نہیں آرہے۔

جناب چیئرمین: ربانی صاحب! you would recall کہ قائد ایوان نے کہا تھا کہ there he is holding a meeting, he is already convener of a committee on that issue. جہاں گنیر بدر صاحب کو آنے دیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں۔

Senator Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman, That meeting is there at 2:00 p.m. I am a member of that committee.

یہ issue گو کہ اس سے بھی related ہے لیکن یہ on the floor of the House raise ہو تھا اور آپ نے specifically کہا تھا کہ let the Minister for Inter Provincial Coordination come and answer this question over here. یہ میں نے ایوان میں بات کی تھی، یہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ ہے، یہ federation کا ایوان ہے، اگر اس میں وزیر آکر جوابدہ نہیں ہو گا کہ CCI کا 08<sup>th</sup> August, 2012 کا ایک decision pending ہے۔ Cabinet Division اس کی یاد دہانی کے لیے Prime Minister Secretariat کو دو summaries بھیج چکا ہے لیکن اس پر کام نہیں ہو رہا، اس لیے وہ یہاں آکر جواب تو دیں کہ کیا وہ اسے

roll back کرنا چاہ رہے ہیں؟ 18<sup>th</sup> Amendment کو روکنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہاں ایوان میں آکر اپنا intent بتائیں۔

جناب چیئرمین: حکومتی بنچوں سے اس کا جواب Chief Whip دے دیتے ہیں۔ جی اسلام الدین شیخ صاحب۔

سینیٹر اسلام الدین شیخ (چیف وہپ): جناب چیئرمین! مجھے Leader of the House نے بتایا تھا کہ کل ان سے رابطہ ہوا تھا لیکن آج چونکہ کمیٹی کی میٹنگ ہے اس لیے وہ کل ضرور تشریف لائیں گے۔

Senator Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman! The Leader of the House is here, he should answer that why the Minister is not present?

جناب چیئرمین: جہانگیر بدر صاحب۔  
سینیٹر محمد جہانگیر بدر (قائد ایوان): جناب چیئرمین! یہ کہا گیا تھا کہ وہ آج آئیں گے لیکن آج CCI کی اپنی میٹنگ ہے، وزیراعظم صاحب نے رضا ربانی صاحب کو کل in the meeting of the Core Committee یہ بتایا ہے، I think he knows it. اس لیے وہ کل آجائیں گے۔

سینیٹر میاں رضاربانی: جناب چیئرمین! وزیراعظم صاحب نے مجھے نہیں بتایا کہ CCI کی میٹنگ ہے، انہوں نے ایک general remark دیا تھا۔ میری ابھی Chief Minister Sindh سے ایوان میں آنے سے پہلے بات ہوئی ہے، ابھی CCI کی میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔

جناب چیئرمین: رضاربانی صاحب! Anyhow he made a statement that he will come tomorrow. اب انہوں نے کچھ دیا ہے تو، let's wait for that وہ کل تشریف لے آئیں گے۔ جعفر اقبال صاحب۔

سینیٹر چوہدری محمد جعفر اقبال: جناب چیئرمین! میں آپ اور اس ایوان کی توجہ ایک افسوس ناک واقعے کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا جو نیب کے officer کا مران فیصل کے ساتھ پیش آیا۔ تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور رات ان کے والد عبدالحمید صاحب میڈیا پر فرما رہے تھے کہ نہ تو

FIR درج ہوئی ہے اور نہ ہی حکومت نے جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں قائم کیے گئے کمیشن کا notification جاری کیا ہے۔ جناب والا! آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کینسر کی طرح پھیل چکی ہے اور خدشہ ہے کہ یہ جو کینسر پھیلا ہے غالباً یوں لگتا ہے کہ یہ اس نظام کو لپیٹ کر نہ لے جائے۔ اس officer کے ساتھ کتنی نا انصافی ہے۔ کرپشن مافیا نے پورے ملک میں جو حال بچھایا ہے کہ آج کوئی بھی آدمی independent inquiry or investigation کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پچھلے تین چار دنوں سے نیب کے officers قلم چھوڑ بھڑتال کر رہے ہیں۔ جناب چیئرمین! اس ملک میں اگر یہی ظلم جاری رہا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں بیٹھنا کسی کام کا نہ ہوگا۔

جناب والا! Rental power میں کرپشن کے حوالے سے یہ بہت high profile case ہے، جس میں محترم وزیراعظم صاحب جو اس وقت وزیر برائے پانی و بجلی تھے، وہ involve ہیں، اس میں federal secretaries اور بہت سے دوسرے لوگ شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس میں اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جیسا کہا جاتا ہے کہ 'justice delayed is justice denied' تو آج پاکستان میں جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں اور پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، IMF and World Bank کے قرضے لے لے کر ملک کو چلایا جا رہا ہے، اس طرح ان لوگوں کی پھر حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ایوان اس چیز کا notice لے، کوئی resolution pass کرے۔ ان کے والد محترم رات کو کھد رہے تھے کہ مجھے کسی پر اعتماد نہیں ہے، چیف جسٹس کوئی investigation commission قائم کریں کیونکہ جسٹس جاوید اقبال ایبٹ آباد کمیشن کے بھی سربراہ رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں کسی اور کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا، وہ ایسے ہی ہے جیسے سرد خانے میں ڈال دینا۔ جناب چیئرمین! اس کے معصوم بچے ہیں اور ہم لوگ جو ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اجاگر کریں، ان چیزوں کا پیچھا کریں اور اس ملک سے کرپشن کو ختم کرائیں ورنہ میں on the floor of the House یہ کہوں گا کہ کرپشن جو آج ایک کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہے کہیں یہ اس نظام کی بساط ہی نہ لپیٹ کر لے جائے۔ شکر یہ۔

جناب چیئرمین: مشاہد حسین سید صاحب۔

Senator Mushahid Hussain Syed: Thank you Mr. Chairman, I just want to draw the attention of the honourable

members of the House to this news item which has been published in today's press and which shows escalation of tensions *vis-a-vis* India Pakistan relations. There is a photograph today which shows that in occupied Kashmir there is an exercise being taken regarding the nuclear war possibilities and what should be done in case of a nuclear war? Now this, I feel is part of the psychological warfare campaign deliberately done by the Indian establishment and the Indian military because in the past

آپ نے دیکھا کہ LOC پر انہوں نے جارحیت کی، ہم نے دفاع بھی کیا اور tension defuse کرنے کی کوشش بھی کی، انہوں نے اسے with the broader Pakistan India relationship link کر دیا۔ ہمارے ہاکی کے کھلاڑیوں کو واپس بھیجا، ہمارے play writes وہاں گئے تھے، ان کے play کو روک دیا گیا۔ انہوں نے 65 years and above senior citizens کے ویزوں کا اجراء روک دیا۔ I think it's a dangerous escalation, they want to put Pakistan in a certain light that there is a threat of nuclear war حالانکہ ایسا کوئی خطرہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں، کسی نے کوئی بات تک نہیں کی، نہ ہمارا ایسا کرنے کا کوئی عندیہ ہے۔

جناب چیئرمین! I feel this is a serious escalation. میں اس میں دو تین

steps propose کرنا چاہتا ہوں۔

Pakistan is today the President of the United Nations Security Council of which India is also a member. I would say that the Pakistan Government, in its capacity as President of the UN Security Council, should raise this issue with other members urging them to de-escalate because the purpose is again to demonize Pakistan and to pressurize Pakistan and while expressing full solidarity with armed forces who are defending our country despite heavy odds I will also take my own initiative as Chairman of the Defence Committee. I am writing a letter to my counterpart in Lok Sabha in India.

اور جناب چیئرمین، پچھلی مرتبہ آپ کا انڈیا کا دورہ بڑا اچھا تھا جب آپ گئے تھے  
and you had defused situation. You had talked to Meera Kumar  
sahiba, the Speaker of the Indian Lok Sabha also. I think the  
parliamentarians should also play the role because some hawks in  
the Indian establishment are determined to raise tensions

اور یہ جو nuclear war کی بات کی ہے، آج ہمارے پریس میں فوٹو بھی چھپی ہے۔ یہ خطرناک ہے اور  
نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔

They are having internal problems because of their own situation,  
the Indian government and also because they feel left out in the  
Afghan situation

کہ پاکستان کا پھر سے ایک کلیدی کردار ہو گیا ہے۔

I just want to draw attention that we should take serious notice of it  
and the government should take action on it diplomatically to defuse  
tensions and the policy of Pakistan in this regard is very clear.  
Thank you, Mr. Chairman.

Mr. Chairman: Mushahid Ullah sahib.

### Target Killing in Karachi

سینیٹر مشاہد اللہ خان: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، جناب چیئرمین، ایک واقعہ کل  
رات کراچی میں جو رونما ہوا ہے وہ آپ کے نوٹس میں ضرور ہوگا۔ میرے ذاتی دوست اور ہماری پارٹی  
کے جوائنٹ سیکرٹری میاں تیمور ارباب اور ان کے والد ارباب صاحب اور ان کی والدہ Defence  
phase-6 میں دو آئی لینے گئے، والدہ بیچاری میڈیکل سٹور میں گئی اور پیچھے سے دہشت گردوں نے  
دونوں کو جو آگے بیٹھے ہوئے تھے، باقاعدہ ٹارگٹ کیا اور یہ بہیمانہ قتل ہوا ہے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، وہاں  
ویسے ہی خون بہت ارزاں ہے۔ پورے ملک میں ارزاں ہے لیکن کراچی میں تو زیادہ ہی سستا ہو چکا ہے۔  
اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر تو اس طرح کی بات ہو جاتی  
ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے۔ سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں پر سپریم کورٹ  
نے بھی جا کر بڑی کوشش کی۔ دیگر ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی کسی مرتبہ وہاں گئے لیکن وہاں مسئلہ  
خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔

میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ سوچیں، مجھے رات گورنر عشرت العباس صاحب کا بھی فون آیا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ غور تو خیر بڑے عرصے سے ہو رہا ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے اس حکومت کو بھی لیکن یہ ایک عجیب و غریب صورت حال ہے جو قابو میں ہی نہیں آرہی۔ اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ حکومت سے اگر سندھ میں یہ سارا سلسلہ کنٹرول نہیں ہو رہا بلکہ ڈیڑھ سال پہلے جب چیف جسٹس صاحب گئے تھے تو انہوں نے توہمہ تھا کہ جو جی آئی ٹی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تو ساری پارٹیاں خود ملوث ہیں جن کے اپنے مسلح گروپ وہاں پر مار دھاڑ کرتے پھر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک آدمی اپنے گھر سے ہی نہیں نکل سکتا۔ میاں تیمور ارباب والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی عمر تیس سال تھی جو اپنے والد کے ساتھ اس جہاں سے چلا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔

میری گزارش ہے کہ آپ اس ہاؤس کی ایک کمیٹی بنائیں خاص طور پر کراچی کے حالات پر اور کوئی ایسا ذمہ دار آدمی اسے head کرے جس کے دل میں واقعی درد ہو یہ جو وہاں خون ارزاں ہوا ہوا ہے۔ ورنہ تو ہر روز کبھی کوئی کبھی کوئی مارا جا رہا ہے اور ہم میں سے بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بشیر بلور صاحب کا پہلے ہی قتل ہو چکا ہے۔ وہاں کوئی محفوظ تو نہیں ہے۔ لوگوں کا کراچی آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ میں اس کی انتہائی مذمت بھی کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں حکومت سے بھی کہیں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس میں کوئی نہ کوئی چیز، کوئی رد عمل یا کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے کم از کم متاثرہ خاندانوں کی کچھ اشک شونی تو ہو سکے۔ شکریہ۔

Mr. Chairman: Flicker is on, Yes, Raja Zafar-ul-Haq sahib.

سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق: جناب چیئرمین، مشاہد اللہ خان صاحب نے کراچی کے ان حالات کے بارے میں توجہ مبذول کروائی ہے۔

جناب چیئرمین: مجھے امید ہے کہ حکومتی بنیوں پر حضرات اس مسئلے کو غور سے سن رہے

ہیں۔

سینیٹر راجہ محمد ظفر الحق: نہیں، وہ اپنے معاملات کو غور سے دیکھتے ہوں گے باقی جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب جو تھوڑا سا وقت تھا، جب سپریم کورٹ کراچی میں جا کر بیٹھی تھی اور پورے ملک میں یہ واویلا تھا کہ وہاں اتنی بے حسی ہے کہ

لوگ مارے جائیں، کتنے بھی مارے جائیں لیکن کسی کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج کے اخبارات میں آپ دیکھیں جناب کہ چلتے چلتے اب کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ کل اٹھارہ لوگ جاں بحق ہوئے اور اس کے علاوہ رات وہ دو باپ بیٹا جن کے بارے میں مشاہد اللہ صاحب نے کہا ہے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے اور کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہاں کے آدمی کی کوئی رپورٹ ہو، لوگ پکڑے جائیں اور کسی کو کوئی سزا ہو۔ یہ سارا سلسلہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بے حس کو اس سینیٹ کے ادارے میں تو کم از کم طاری نہیں ہونا چاہیے لہذا یہ جو قتل ہوئے ہیں جو کہ اٹھارہ یہ اور دو وہ بیس ہو گئے ایک دن میں، یہ ظلم ہے کہ ایسا نہ تو عراق اور نہ افغانستان میں ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں اس معاملے کو ایسے ہی ٹھنڈے پیٹ پی جانا بہت بڑا ظلم ہو گا لہذا ہم PML(N) کے ارکان اس معاملے پر ہاؤس سے walk out کریں گے۔

جناب چیئرمین: جی حاصل بزنجو صاحب۔

سینیٹر میر حاصل خان بزنجو: جناب چیئرمین! میں دو منٹ آپ سے مانگوں گا۔ اس وقت ہمارے بلوچستان کے جے یو آئی اور بی این پی (عوامی) کے ارکان جو پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں، انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے۔ Being a democrat ہم نے کسی غیر جمہوری چیز کی حمایت نہیں کی۔ اس وقت بلوچستان میں جو گورنر راج نافذ کیا گیا ہے ہم یقیناً اس کی حمایت میں نہیں ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آٹاز حقوق بلوچستان کا اعلان ہو رہا تھا تو میں مشترکہ اجلاس میں کھڑا ہو گیا۔ شاید رضا ربانی صاحب کو یاد ہو، دو سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ اس بلوچستان حکومت کو توڑ دو، یہاں الیکشن کرا دو ورنہ یہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔

جناب چیئرمین: ایک منٹ جی، جہانگیر بدر صاحب، اپوزیشن سے بہت سارے سینیٹر حضرات واک آؤٹ کر کے گئے ہیں۔ kindly coordinate with them جی فرمائیں۔

سینیٹر میر حاصل خان بزنجو: ہم نے کہا تھا کہ یہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس وقت ریکوڈک کا مسئلہ چل رہا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ ریکوڈک کو برباد کر دیں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ بین الاقوامی عدالت میں جائیں گے اور دنیا کی کوئی mining company پاکستان کے کسی حصے



میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ Law and order کی صورت حال یہ تھی کہ روزانہ ایک لاش گر رہی تھی۔ مجھے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے وہ الفاظ یاد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ صوبے والوں کو چھوڑیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے۔

آج بی این پی (عوامی) اور جے یو آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1970 میں جو ہوا تھا، جناب 1970 میں ایمر جنسی لگی تھی۔ جب 1970 میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت توڑی گئی تو وہاں ایک بغاوت ہوئی اور پورے بلوچستان میں لوگوں نے ہتھیار اٹھانے لگا آپ کی حکومت آج ختم ہوئی ہے اور پورے بلوچستان میں لوگ جشن منا رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کس شہر میں ان چار دنوں میں تین سو سے زیادہ آدمی جمع کیے؟ کھتے ہیں کہ جی ہماری حکومت توڑی گئی۔ جناب چیئر مین! آپ مجھے بتائیں کہ 80 لاشیں، 20 ہزار لوگ منفی 9 سینٹی گریڈ میں پانچ دن وہاں پر بیٹھے رہے، وزیر اعلیٰ was not there، وزیر داخلہ وہاں نہیں تھا، Senior Minister وہاں پر نہیں ہے، Information Minister ادھر نہیں ہے، پوری Cabinet بھاگی ہوئی ہے اور پھر کھتے ہیں کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے۔ تمہاری حکومت تھی کہ ہر؟ جس شہر میں 80 لاشوں کے ساتھ دس ہزار لوگ منفی درجہ حرارت میں بیٹھے ہوں اور ایک وزیر کی اتنی جرات نہیں کہ وہ کوئٹہ شہر میں داخل ہو اور آپ کھتے ہیں کہ ہماری حکومت ختم کی گئی۔ آپ کی حکومت تو تین سال پہلے ختم ہونی چاہیے تھی۔

دوسرا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم نے کرپشن کی ہے۔ اب اگر یہ اس کو الزام قرار دینا شروع کر دیں کہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے تو پاکستان میں کھیں بھی کرپشن نہیں ہوئی۔ اس وقت چیئر مین صاحب! نیب کی اپنی رپورٹ ہے۔ 35 ارب روپے کی کرپشن بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی میں ہوئی ہے۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے یہ نیب کی رپورٹ ہے۔ صرف چار دن میں، ان کے ختم ہوتے ہی، نیب نے 18 افراد کے وارنٹ نکال دیے۔ کھتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے۔ آپ لوگ اگر اس طرح احتجاج کرنے والے تھے تو بلوچستان میں 550 لاشیں گریں اس وقت تو آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف یہ نہیں ہے۔ یہ اس حکومت کی continuity نہیں ہے یہ مشرف حکومت کی بھی continuity ہے۔ بلوچستان میں جو حکومت مشرف کے زمانے میں تھی وہی لوگ change 25% کے ساتھ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی وزراء اور وہی وزارتیں جو مشرف کے زمانے میں جن جن پارٹیوں کے پاس تھیں آپ ان کی لسٹ نکال لیں ساری وزارتیں اسی طرح تقسیم کی گئی۔ اب TV پر خبر آتی ہے۔ میں حیران تھا۔ ایک صاحب بول رہے ہیں کہ اگر حالات

اسی طرح رہے تو بلوچستان میں بنگلہ دیش بن جائے گا۔ آپ لوگوں کو کس نے چوری سے روکا ہے۔ آپ لوگوں کو کس نے کرپشن سے روکا ہے۔ تو اسی طرح وہاں بنگلہ دیش بنے گا۔ آپ نابال لوگوں سے تو وہاں کے عوام کی جان چھوٹی ہے۔ گوکہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ We are not depending on PPP and the President مگر ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آج بھی چیف منسٹر اتنا ہوجانے کے باوجود انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور بلوچستان آنے کے لیے تیار نہیں۔ کھتے ہیں کہ ہم دھرنادیں گے، ہم سارے ایئر پورٹس بند کردیں گے اور ہم ساری ریلویز بند کردیں گے۔ آپ لوگ کس غلط فہمی میں ہیں۔ اب تو بات یہ ہوگی کہ اگر آپ نے ان کو بحال کیا تو لوگ اس پر احتجاج کریں گے۔ آپ کھتے ہیں کہ بحال نہ ہونے تو لوگ احتجاج کریں گے۔ لوگ احتجاج کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جناب چیئر مین! یہاں پر سردار فتح محمد حسنی صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا بلوچستان کے لوگ اس حکومت کے جانے سے پریشان ہیں؟ کیا اس حکومت کے جانے سے لوگوں کو بہت افسوس ہو رہا ہے؟ جناب چیئر مین! پرسوں (Awami) BNP کے President ایک بلوچی چینل پر تھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس گورنر راج کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ گورنر راج بہت بری بات ہے مگر کیا کریں وزیر اعلیٰ نہیں آتا تو گورنر راج نے لگنا ہی لگنا ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہے۔ میں میرا سر اللہ خان زہری کو کھتا ہوں کہ اتنے جذباتی ہو، واک آؤٹ کر رہے ہو اور شہروں میں احتجاج کر رہے ہو۔ پہلے تو اس Treasury Bench کو چھوڑ دو۔ اس کرسی کو چھوڑ کر ادھر آ جاؤ۔ آپ تو PPP میں نہیں ہیں اور نہ آپ PML (Q) میں ہیں۔ اس وقت احتجاج کون کر رہا ہے؟ PML (Q) کر رہی ہے، PPP کر رہی ہے اور (Awami) BNP کر رہی ہے۔ کب تک لوگوں سے جھوٹ بولیں گے۔ کب تک لوگوں کو دھوکا دیتے رہیں گے۔ آج میں دعوے سے کھتا ہوں کہ وہ لوگ جو elect ہو کر آئے تھے۔ ان کے پاس ایک سوزو کی جیب نہیں تھی مگر آج ان سب لوگوں کی investment دہی، سعودی عرب اور لندن میں ہے۔ یہ لوگ کھتے ہیں کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو بنگلہ دیش بنے گا۔ میں کھتا ہوں کہ اس وقت true continuity of Musharraf is there. اگر کوئی حکومت ہے تو وہ صرف اور صرف بلوچستان میں ہے۔ مشاہد بھائی بیٹھے نہیں ہیں۔ اس کو کہیں کہ یہی PML (Q) والے مشرف کے زمانے میں تھے۔ انہی لوگوں کو پھر وزارتیں ملی ہیں۔ یہی منسٹریاں مشرف کے زمانے میں JUI کے پاس تھیں اور آج بھی وہی منسٹریاں ان کے پاس ہیں۔ جناب چیئر مین! میری رائے ہے کہ ہم بائیکاٹ کر کے بلوچستان کے لوگوں کو دھوکا نہیں دے سکتے مگر PPP کو یہ کام

دو سال پہلے کرنا تھا۔ اس حکومت کو dissolve کرنا تھا۔ ہم روتے رہے ہیں اور یہاں پر جھنٹے رہے مگر اس وقت PPP کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اب جب PPP کو ہوش آگیا ہے تو اس وقت پل کے نیچے سے پانی بہ چکا تھا۔ بہت شکریہ۔

جناب چیئرمین: جی، اسلام الدین شیخ صاحب۔

سینیٹر اسلام الدین شیخ: شکریہ، جناب چیئرمین! جس طرح کراچی کے اندر target killings ہو رہی ہیں اور اس کا سلسلہ واقعی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس پر provincial Government کو بھی بڑی ہدایتیں کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے اور کل رات جب ہمارے اپوزیشن کے ارکان نے واک آؤٹ کیا تھا۔ کراچی میں ان کے دو اراکین بلکہ ان کے office holders ہیں، باپ اور بیٹے کی اس طرح target killing کی گئی ہے۔ جناب چیئرمین! میں Treasury Benches کی طرف سے مذمت کرتا ہوں اور میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم پھر سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس بات کی ہدایت دیں گے کہ ان کے قاتلوں کو جلد از جلد پکڑا جائے اور ان کو proper سزا دی جائے۔ یہ جو خون اس طرح بہ رہا ہے اس کو بھنے سے روکا جائے۔ معزز ممبران نے ہماری بات مانی ہے اور وہ واک آؤٹ ختم کر کے واپس آگئے ہیں۔

جناب چیئرمین: سید مظفر حسین شاہ صاحب۔

Senator Syed Muzafar Hussain Shah: Sir, I just wanted to point out that there is an epidemic which is presently in the province of Sindh. This epidemic pertains to the outbreak of measles on a very large scale in northern parts of the province of Sindh, central Sindh and even southern Sindh. The question of apprehension has been that enough vaccines have not been provided for the children basically below 5 years of age. I would like to point out and hope the Leader of the House would kindly get in touch with the Minister concerned.

Mr. Chairman: Jahangir Bader sahib, there is an important issue raised by the honourable Member regarding measles. Jahangir Bader sahib, you have to respond to it.

بہت سارے infants کی death ہوئی ہے۔

They are in a large number and kindly see what the Federal Government can do in this regard.

Senator Muhammad Jahangir Bader: Sir, it would be better if it is taken up in the presence of the concerned Minister.

سینیٹر سید مظفر حسین شاہ: یہ سیاسی vaccine نہیں ہے یہ وہ دوسری measles والی ہے۔

Mr. Chairman: Shah sahib, it would be more appropriate, you have given a call attention notice for that. We can take it tomorrow and certainly the Minister would be here to respond to it.

Senator Syed Muzafar Hussain Shah: Alright sir.

Mr. Chairman: Thank you. Nasreen Jalil sahiba.

سینیٹر نسreen جلیل: جناب چیئرمین! PML(N) کی جانب سے جو نشاندہی کی گئی، جو اموات ہوئی ہیں یا جو قتل کیے گئے ہیں اس کی شدید الفاظ میں ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ ایک غور طلب چیز یہ ہے کہ یہ سلسلہ پچھلے سال سے جاری ہے اور حکومت اور ریاست دونوں اس قتل و غارت کو روکنے میں ناکام ہوئی ہیں اور اس کے سب سے زیادہ affectees متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اور اس کے لیڈران ہیں۔ سید منظر امام صاحب کی جو شہادت ہوئی۔ ان کے قاتلوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے جو بھی قتل ہو رہے تھے جس بہیمانہ انداز میں شہریوں کو، علما کو، وکیل کو، ڈاکٹرز کو، بے گناہ انسانوں کو مارا جا رہا تھا لیکن اب ایک بات positive ہوئی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو اس سے پہلے ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہی تھیں، قائد تحریک الطاف بھائی اور اسفند یار ولی صاحب کی گفتگو کے بعد، ایک دوسرے کے ساتھ understanding کے ساتھ مل کر دہشت گردی خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس پوائنٹ پر ایک ہو جانا چاہیے۔ میں توقع کروں گی کہ PML(N) بھی اس کے ساتھ اپنی آواز ملائے گی اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ جناب چیئرمین! میں سمجھتی ہوں کہ جب یہاں پر PML(N) کے ساتھیوں کو

مارا گیا، ظاہر ہے کہ ان کو دکھ ہوا، ہم آئے دن لاشیں اٹھا رہے ہیں، آئے دن ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کو destabilize کرنے کی سازش ہے اس کو ہم سب مل کر حل کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو ایک ہی صفحہ پر آنا ہوگا، ایک ہی بات کرنی ہوگی، کوئی لائحہ عمل بنانا ہوگا تا کہ اس دہشت گردی سے نجات پاسکیں۔ شکریہ۔

Mr. Chairman: Thank you. The House stands adjourned to meet again on Thursday, 24<sup>th</sup> January, 2013 at 10:30 am.

-----  
[The House was then adjourned to meet again on Thursday, 24<sup>th</sup> January, 2013 at 10:30 am.]  
-----